



## PAKISTAN STOCK BROKERS ASSOCIATION

(A company setup under section 42 of the Companies Act 2017)

Regd Office: Mezzanine Floor, Trading Hall, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,  
Off I.I Chundrigar Road, Karachi.

Tel: 021-32401278, E-mail: secretariat@psba.pk, Web: www.psba.pk, Fax: 021-32401279

PSBA/Notice-220

July 17, 2025

### NOTICE FOR MEMBERS

#### **FEEDBACK ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BILL, 2024**

This is in reference to the notification No. CLD/CCD/BOI-2008-B-599 dated July 16, 2025 (attached), whereby the comments have been invited by the SECP:

In this regard, the members are hereby requested to kindly submit your comments, if any, at psamail024@gmail.com latest by **July 21, 2025**, so that a consolidated response is submitted to the authorities for their consideration.

\_\_\_\_\_  
Sd  
**Akber Ali**  
Officer - Secretariat

#### **Copy to:**

1. PSBA Website



## SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Licensing and Registration Division (LRD)

No. CLD/CCD/BOI-2008-B - 599

July 16, 2025

**SUBJECT: FEEDBACK ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BILL, 2024**

Dear Sir/Madam

The SECP seeks feedback/comments on "Corporate Social Responsibility Bill" (CSR Bill) introduced by a National Assembly member, which is currently under consideration by the Standing Committee on Finance and Revenue.

2. Your feedback on the attached CSR Bill may please be shared latest by 23<sup>rd</sup> July, 2025 via email at [fozia.perveen@secp.gov.pk](mailto:fozia.perveen@secp.gov.pk)

Yours truly,

**Ali Azeem Ikram**  
Executive Director (LRD)

**[AS INTRODUCED IN NATIONAL ASSEMBLY]**

**A  
BILL**

*to provide for the Corporate Social Responsibility in Profit-making Companies*

WHEREAS it is expedient to provide for the Corporate Social Responsibility for companies, banks, and SOEs (State-owned enterprises) with matters arising out of or connected therewith;

It is hereby enacted as follows:-

**1. Short title, extent, and commencement:** - (1) This Act may be called the Corporate Social Responsibility Bill, 2025.

(2) It extends to the whole of Pakistan and shall apply to all companies, banks, and state-owned enterprises except associations with charitable and not for profit objectives incorporated under the provisions of the Companies Act, 2017 (Act No. XIX of 2017);

(3) It shall come into force at once.

**2. Definitions.**- In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context:-

- (a) **"Act"** means The Corporate Social Responsibility Act, 2024;
- (b) **"Association with charitable and not-for-profit objectives"** means an association or company incorporated and licensed under section 42 of the Companies Act, 2017 (Act No. XIX of 2017) that is not-for-profit.
- (c) **"Board of Directors"** means the Board of Directors of the company as defined the Companies Act, 2017(Act No. XIX of 2017);
- (d) **"Commission"** shall have the same meaning as defined in the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act, 1997 (Act No. XLII of 1997);
- (e) **"Company"** means the company as defined in Companies Act, 2017 (Act No. XIX of 2017), except charitable and non-profit association or company in incorporated and licensed under section 42 of the Companies Act, 2017 (Act No. XIX of 2017);
- (f) **"Company law"** means the company law as defined in Companies Act, 2017 (Act No. XIX of 2017);
- (g) **"Corporate Social Responsibility"** means a Company's responsibility towards the society and the environment through projects or programmes relating activities specified in the Schedule to this Act and projects or programs relating to

activities undertaken by the Board of Directors of a company pursuant of recommendations of the CSR Committee of the Board as per declared CSR Policy of the company subject to the condition that such policy shall cover subjects mentioned in the Schedule to this Act;

- (h) **"Corporate Social Responsibility Commissioner"** means a Commissioner appointed under this Act;
- (i) **"Corporate Social Responsibility Committee"** means the Committee of the Board of the company;
- (j) **"Corporate Social Responsibility Policy"** means a policy relating to activities to be undertaken by the company as specified in the Schedule to this Act;
- (k) **"Director"** means the Director of a company;
- (l) **"Prescribed"** means prescribed by rules;
- (m) **"Rules"** means to rules made under this Act; and
- (n) **"Schedule"** means the Schedule to this Act.

(2) The words and expressions used but not defined in this Act shall have the meanings as assigned to them in the Companies Act, the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act, 1997 (Act No. XLII of 1997) or the General Clauses Act, 1897 (Act No. X of 1897).

**3. Corporate Social Responsibility of the Companies.-** (1) Every company excluding the non-profit, or charitable companies, incorporated under the provisions of the Companies Act, with a turnover of more than one billion rupees shall earmark not less than one percent of its net profit which shall be spent for activities or projects relating to Corporate Social Responsibility as provided in the Schedule under the provisions of this Act.

Provided that companies with less turnover shall follow the guidelines issued by the Security and Exchange Commission from time to time;

(2) The Board of Directors of the company shall ensure that the company shall spend the amount earmarked under sub-section (1), of this section in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy.

(3) The company shall spend the allocated amount for activities specified in the Schedule in order of preference in vicinity or local areas around where the company operates.

**4. Corporate Social Responsibility Policy.-** (1) Every company shall formulate a CSR Policy within three months after commencement of the Act for activity contained in the Schedule.

(2) The CSR Policy shall be annexed with financial statements of the company.

**5. Approval of the Board.-** (1) The Board of Director shall approve the CSR Policy recommended by the CSR Committee:

Provided that the Board of director may amend the recommended Policy and after incorporation of such recommendations the CSR Policy shall be deemed to be the CSR Policy of the Company.

(2) Immediately after approval of the Policy it shall be displayed on website or portal of the company and a copy of the same shall also be sent to the Corporate Social Responsibility Commissioner for placing in official record and information.

**6. Corporate Social Responsibility Committee.-** (1) Every company incorporated under the provisions of the of the Companies Act, or Banking Companies Ordinance 1962, shall constitute a Committee which shall be known as the "Corporate social responsibility Committee" within three months after commencement of operations of the company.

(2) The Corporate social responsibility Committee shall be consisting of three directors.

(3) The Corporate social responsibility Committee shall formulate a corporate social responsibility Policy indicating the activities to be undertaken by the company in different areas specified in the Schedule and recommend the same for approval of the Board of director.

(4) The Corporate social responsibility Committee may review or amend the corporate social responsibility Policy from time to time keeping in view priority areas as contained in the Schedule.

(5) The Corporate social responsibility Committee shall recommend the amount of expenditure to be spent on the activities selected as Corporate social responsibility Policy areas amongst the areas specified in the Schedule.

(6) The Corporate social responsibility Committee shall monitor the compliance and implementation of the Corporate social responsibility Policy of the company.

(7) The Corporate social responsibility Committee of the company shall prepare an annual report encompassing all activities performed by the company in pursuance of the Corporate social responsibility Policy for initiation and completion of different activities and projects in areas as specified in the Schedule which shall also be placed on website or portal of the company.

**7. Failure to comply with the policy:-** (1) If any company fails to implement the policy or has not spent the earmarked amount, the Board of director shall specifically state reasons for such failure in its report and inform the Corporate social responsibility Commissioner.

(2) Corporate social responsibility Commissioner may allow time to the company if the reasons are plausible.

(3) If the company has ongoing Corporate social responsibility projects, it must transfer the unspent funds to special account specified by the Board of directors and spend the funds on Corporate social responsibility related activities within 2 years of the transfer date.

(4) However, If the company fails to spend the specified amount within 2 years,

Corporate Social Responsibility Commissioner shall transmit the funds to any association or company incorporated and licensed under section 42 of the Companies Act, 2017 (Act No.

XIX of 2017) or any non-profit organization registered under any other law in the area or the subject concerned for spending such amount for activities as specified in the Schedule.

(5) The non-profit company transmitting funds shall follow the processes as may be prescribed by the commission.

**8. Corporate Social Responsibility Commissioner:-** (1) Any Commissioner under Securities and Exchange Commission of Pakistan Act, 1997 (Act No. XLII of 1997), with required knowledge and experience in Corporate Social Responsibility shall be appointed Corporate Social Responsibility Commissioner.

(2) terms and conditions prescribed for the Commissioners appointed under the provisions of the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act, 1997 (Act No. XLII of 1997), shall be applicable for the Corporate Social Responsibility Commissioner.

**9. Powers and functions of the Corporate Social Responsibility Commissioner.-** (1) The Corporate Social Responsibility Commissioner shall oversee compliance and implementation of the Corporate social responsibility Policy and activities in compliance with the Policy of the company.

(2) The Corporate social responsibility Committee or the Secretary of the company shall report compliance and implementation of activities in pursuance of the Corporate social responsibility Policy to the Corporate social Commissioner every three monthly basis.

(3) In case of failure to spend the required amount, the CSR Commissioner shall impose a penalty not less than allocable amount under the CSR Policy or under section 3 of the Act for different activities as specified in the Schedule and shall transmit such amount of penalty to any association or company incorporated and licensed under section 42 of the Companies Act, or any non-profit organization registered under any other law in the area for spending such amount for activities as specified in the Schedule.

**10. Tax concessions.-** Notwithstanding anything contained in this Act or the Income Tax Ordinance, 2001 (Ordinance No. XLIX of 2001), any amount spent towards Corporate Social Responsibility shall be a deductible expenditure under the provisions of the said Ordinance.

**11. Amendment of the Schedule.-** The Federal Government may amend the Schedule, from time to time, by a notification to be published in the official Gazette.

**12. Power to make rules.-** (1) The Commission, with prior approval of the Federal Government, shall make rules for the purposes of the Act.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, the rules under the Act shall be made within a period of sixty days after the commencement of the Act.

**13. Removal of difficulties:-** (1) If any difficulty arises in giving effect to any provision of the Act, the Security and Exchange Policy Board of the Commission may, by an order published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be appropriate or necessary for the purpose of removal of such difficulty.



(2) No power under sub-section (1) shall be exercised after two years of the commencement of this Act.

---

**SCHEDULE**  
**[See section 15]**

**ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
POLICIES**

The following activities may be included in the Corporate Social Responsibility policies of the companies, namely:-

- (a) Community welfare by launching projects for betterment of community as a whole in vicinity or nearby areas;
- (b) social and economic welfare for example, prescribing monthly sums for disabled, infirm, old-age persons, stipends or scholarships, or internships for students;
- (c) eradication of poverty, hunger and malnutrition;
- (d) Promotion of healthcare by establishing hospitals, clinics and dispensaries as well as nursing, child-mother care and midwifery centres;
- (e) Promotion of cleanliness and sanitation by building drainage systems in nearby villages;
- (f) Promotion of education by establishing schools and colleges, libraries and laboratories, particularly for girls;
- (g) Establishment of information technology and computer training centres as well as for promotion of freelancing;
- (h) Promotion of technical and vocational education with special emphasis on skill development in those sectors which have demand internationally and better employment opportunities;
- (i) Empowerment of women and promotion of equality through financial inclusion and enterprise development;
- (j) Establishing hostels, old-age homes or orphanages for needy and poor;
- (k) Ensuring environmental sustainability keeping in view climatic changes, Ecological balance, protection of local fauna and flora; environmental conservation.
- (l) Promotion of agroforestry, conservation of natural resources while maintaining soil, air and water quality;
- (m) Projects for rural development in nearby vicinities, including roads and pavements;

- (n) Projects for better living conditions in rural areas, slums and **katchi abadies**; etc., in nearby areas including housing, clean drinking water, building parks and playgrounds;
- (o) protection of national culture and heritage by preservation of buildings and sites of historical importance;
- (p) Promotion of sports amongst youth by establishing and maintaining sports centres and stadiums, etc., as well as fixing stipends to talented and emerging players of the area;
- (q) Establishment and manage research centres and laboratories in the field of science, medicine, technology and engineering; or
- (r) Working for preparedness for disaster management by making necessary arrangements ensuring relief, rehabilitation and reconstruction activities, etc.
- (s) Providing internship capacity building of youth in the area of operation of company.

#### **STATEMENT OE OBJECTS AND REASONS**

Corporate Sector Responsibility is a standard practice in corporate governance to promote responsible social and environmental projects and programmes in the area of operation of the organization from its profits as a duty towards the community. The corporate sector must contribute towards social and economic well-being of the poor and needy as well as to spend to ensure better environment for all. Pakistan is lagging behind in attainment of SDG goals and therefore it is important that corporate and private sector also takes responsibility in the achievement of these goals

Presently, there are guidelines, and informal arrangements through which the corporate sector is contributing towards Corporate Social Responsibility (CSR). However, are no binding provisions in the Companies Act, 2017 (Act No. XIX of 2017), or the company law in force in Pakistan regarding the CSR. Mere guidelines cannot serve any purpose unless there are some binding provisions of the law with penal consequences.

This Bill formalises the guidelines and provides structure for CSR expenditure. Apart from Section 42 companies, it includes both the banking sector and state-owned enterprises for CSR expenditure thereby expanding the scope of the law. It further specifies that only large companies with significant profits will be mandated to spend one per cent of the profits on the CSR.

SD/-  
**DR. NAFISA SHAH**  
Member, National Assembly



## [قومی اسمبلی میں پیش کردہ حکومتی پیشکش]

### منافع بخش کمپنیوں میں کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کی بابت احکام وضع کرنے کا بل

چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ کمپنیوں، بینکوں، اور ایس او ایف (ریاستی ملکیتی کاروباری اداروں) کی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری اور اس سے منسلک یا اس کے ذیلی معاملات کے لیے احکام وضع کئے جائیں؛

بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

۱۔ **مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:** (۱) ایکٹ ہذا کارپوریٹ سماجی ذمہ داری بل، ۲۰۲۵ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ پورے پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا اور اس کا اطلاق کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (ایکٹ نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) کی تصریحات کے تحت شامل کردہ خیراتی اور غیر منافع بخش انجمنوں کے علاوہ تمام کمپنیوں، بینکوں اور ریاستی ملکیتی اداروں پر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ **تعریفات:-** اس ایکٹ میں جب تک کہ موضوع یا سیاق و سباق میں کوئی چیز مانع امر نہ ہو:-

(الف) "ایکٹ" سے مراد کارپوریٹ سماجی ذمہ داری ایکٹ، ۲۰۲۳ء ہے؛

(ب) "خیراتی اور غیر منافع بخش انجمن" سے مراد کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (ایکٹ نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) کی دفعہ ۴۲ کے تحت شامل کردہ لائسنس یافتہ انجمن یا کمپنی ہے جو کہ غیر منافع بخش ہے۔

(ج) "بورڈ آف ڈائریکٹرز" سے مراد کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے جیسا کہ کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (ایکٹ نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) میں بیان کیا گیا ہے؛

(د) "کمیشن" کا وہی مطلب ہوگا جیسا کہ تمسکات و مبادلہ کمیشن پاکستان ایکٹ ۱۹۹۷ء (ایکٹ نمبر ۴۲ بابت ۱۹۹۷ء) میں بیان کیا گیا ہے؛

(ه) "کمپنی" سے مراد کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (ایکٹ نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) میں بیان کردہ کمپنی ہے، ماسوائے خیراتی اور غیر منافع بخش انجمن یا کمپنی کے جو کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (ایکٹ نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) کی دفعہ ۴۲ کے تحت شامل کردہ اور لائسنس یافتہ ہو؛

(و) "کمپنی قانون" سے مراد کمپنی کا قانون ہے جیسا کہ کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (ایکٹ نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) میں بیان کیا گیا ہے؛

(ز) "کارپوریٹ سماجی ذمہ داری" کا مطلب ایکٹ ہذا کے جدول میں بیان کردہ سرگرمیوں سے متعلق پروجیکٹس یا پروگرامز کے ذریعے معاشرے اور ماحول اور اعلان کردہ سی ایس آر پالیسی کے مطابق بورڈ کی سی ایس آر کمیٹی کی سفارشات کی تعمیل میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے شروع کی گئی سرگرمیاں جو کہ ایکٹ ہذا کے جدول میں بیان کردہ عنوانات سے مشروط ہیں، سے متعلق کمپنی کی ذمہ داریاں ہیں۔

(ح) "کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمشنر" سے مراد ایکٹ ہذا کے تحت مقرر کردہ کمشنر ہے؛

(ط) "کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمیٹی" سے مراد کمپنی کے بورڈ کی کمیٹی ہے۔

(ی) "کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کی پالیسی" سے مراد کمپنی کی جانب سے کی جانے والی سرگرمیوں سے متعلق پالیسی ہے

جیسا کہ اس ایکٹ کے شیڈول میں صراحت کیا گیا ہے۔

(ک) "ڈائریکٹر" سے مراد کمپنی کا ڈائریکٹر ہے؛

(ل) "مجوزہ" سے مراد قواعد کے ذریعہ تجویز کردہ ہے؛

(م) "قواعد" سے مراد ایکٹ ہذا کے تحت بنائے گئے قواعد ہیں؛ اور

(ن) "شیڈول" سے مراد ایکٹ ہذا کا شیڈول ہے۔

(۲) ایکٹ ہذا میں استعمال کیے گئے الفاظ اور عبارات کے وہ معنی ہوں گے جو کمپنیاں ایکٹ، تمسکات و مبادلہ کمیشن پاکستان ایکٹ

۱۹۹۷ء (ایکٹ نمبر ۴۲ بابت ۱۹۹۷ء) یا عمومی شقات ایکٹ، ۱۸۹۷ء (ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۱۸۹۷ء) میں تفویض کیے گئے ہیں۔

۳۔ کمپنیوں کی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری (۱) ہر کمپنی ماسوائے غیر منافع بخش، یا خیراتی کمپنیوں کو، کمپنیاں ایکٹ کی دفعات کے

تحت شامل کیا گیا ہے، جس کا کاروبار ایک ارب روپے سے زیادہ ہے وہ اپنے خالص منافع سے ایک فیصد سے کم تخصیص نہیں رکھے گی۔ ایکٹ ہذا کی دفعات کے تحت شیڈول میں فراہم کردہ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری سے متعلق سرگرمیوں یا منصوبوں کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ بشرطیکہ کم ٹرن اوور والی کمپنیاں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ رہنما خطوط پر عمل کریں گی؛

(۲) کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کمپنی اس دفعہ کی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت مختص رقم کو اپنی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کی پالیسی کے مطابق خرچ کرے گی۔

(۳) کمپنی شیڈول میں بیان کردہ سرگرمیوں کے لیے مختص رقم کو ترجیح کے لحاظ سے ارد گرد کے علاقے یا مقامی علاقوں میں خرچ کرے گی جہاں کمپنی کام کرتی ہے۔

۴۔ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کی پالیسی (۱) ہر کمپنی شیڈول میں شامل سرگرمی کے لیے ایکٹ کے آغاز کے بعد تین ماہ کے اندر ایک کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کی پالیسی تشکیل دے گی۔

(۲) سی ایس آر پالیسی کو کمپنی کے مالی گوشواروں کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔

۵۔ بورڈ کی منظوری (۱) بورڈ آف ڈائریکٹر سی ایس آر کمیٹی کی تجویز کردہ سی ایس آر پالیسی کو منظور کرے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر مجوزہ پالیسی میں ترمیم کر سکتا ہے اور ایسی سفارشات کو شامل کرنے کے بعد سی ایس آر پالیسی کو کمپنی کی سی ایس آر پالیسی تصور کیا جائے گا۔

(۲) پالیسی کی منظوری کے فوراً بعد اسے کمپنی کی ویب سائٹ یا پورٹل پر نمایاں کیا جائے گا اور اس کی ایک نقل سرکاری ریکارڈ اور معلومات کے لئے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمشنر کو بھی بھیجی جائے گی۔

۶۔ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمیٹی (۱) کمپنیاں ایکٹ، یا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، ۱۹۶۲ء کی دفعات کے تحت شامل ہر کمپنی

کمپنی کے کام کے آغاز کے بعد تین ماہ کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دے گی جسے "کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمیٹی" کا نام دیا جائے گا۔

(۲) کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمیٹی تین ڈائریکٹر پر مشتمل ہوگی۔

(۳) کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمیٹی ایک کارپوریٹ سماجی ذمہ داری پالیسی وضع کرے گی جس میں کمپنی کی طرف سے جدول میں

بیان کردہ مختلف شعبوں میں کی جانے والی سرگرمیوں کی نشاندہی کرے گی اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی منظوری کے لئے اس کی سفارش کرے گی۔

(۴) کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمیٹی وقتاً فوقتاً کارپوریٹ سماجی ذمہ داری پالیسی کا جائزہ لے گی یا ترجیحی شعبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے

اس میں ترمیم کرے گی جیسا کہ جدول میں شامل ہے۔

(۵) کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمیٹی جدول میں بیان کردہ علاقوں میں کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے علاقوں کے طور پر منتخب کردہ

سرگرمیوں پر خرچ کی جانے والی رقم کی سفارش کرے گی۔

(۶) کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمیٹی، کمپنی کی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری پالیسی کی تعمیل اور نفاذ کی نگرانی کرے گی۔

(۷) کمپنی کی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمیٹی ایک سالانہ رپورٹ تیار کرے گی جس میں کمپنی کی طرف سے کارپوریٹ سماجی ذمہ

داری پالیسی کے تحت مختلف سرگرمیوں اور منصوبوں کی شروعات اور تکمیل کے لئے کمپنی کی طرف سے کی جانے والی تمام سرگرمیوں کو شامل کیا

جائے گا جیسا کہ جدول میں بیان کیا گیا ہے جسے کمپنی کی ویب سائٹ یا پورٹل پر رکھا جائے گا۔

۷۔ پالیسی کی تعمیل میں ناکامی (۱) اگر کوئی کمپنی پالیسی پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہتی ہے یا اس نے مختص رقم خرچ نہیں کی

ہے، تو بورڈ آف ڈائریکٹر اپنی رپورٹ میں، خاص طور پر اس طرح کی ناکامی کی وجوہات بیان کرے گا اور کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمشنر کو مطلع کرے گا۔

(۲) اگر وجوہات قابل فہم ہوں تو کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمشنر کمپنی کو وقت دے سکتا ہے۔

(۳) اگر کمپنی کے پاس کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے منصوبے جاری ہیں، تو اسے بورڈ آف ڈائریکٹر کی جانب سے مختص کردہ

مخصوص اکاؤنٹ میں غیر استعمال شدہ فنڈز کو منتقل کرنے ہوں گے اور منتقلی کی تاریخ کے دو سال کے اندر کارپوریٹ سماجی ذمہ داری سے متعلق سرگرمیوں پر فنڈز خرچ کرنا ہوں گے۔

(۴) تاہم اگر کمپنی دو سال کے اندر مختص کردہ رقم کو خرچ کرنے میں ناکام رہتی ہے، کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمشنر کمپنیاں

ایکٹ، ۲۰۱۷ء (ایکٹ نمبر ۱۹ مجریہ ۲۰۱۷ء) کی دفعہ ۴۲ کے تحت شامل کردہ یا لائسنس یافتہ کوئی ایسوسی ایشن یا کمپنی کو یا علاقے میں کسی دیگر قانون کے تحت رجسٹرڈ کوئی غیر منافع بخش تنظیم یا شیڈول میں مخصوص کردہ کے مطابق سرگرمیوں کے لئے ایسی رقم کے استعمال کے لئے متعلقہ موضوع کے لئے فنڈز کی ترسیل کرے گی۔

(۵) فنڈز کی ترسیل کے لئے غیر منافع بخش کمپنی اسی طریقہ کار کی پیروی کرے گی جیسا کہ کمیشن کی جانب سے مقرر کردہ ہو۔

۸۔ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمشنر (۱) تمسکات و مبادلہ کمیشن پاکستان ایکٹ، ۱۹۹۷ء (ایکٹ نمبر ۴۲ مجریہ ۱۹۹۷ء) کے

تحت کوئی کمشنر جو کارپوریٹ سماجی ذمہ داری میں مطلوبہ تعلیمی قابلیت اور تجربے کا حامل ہو، کو کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمشنر تعینات کیا جائے گا۔

(۲) تمسکات و مبادلہ کمیشن پاکستان ایکٹ، ۱۹۹۷ء (ایکٹ نمبر ۴۲ مجریہ ۱۹۹۷ء) کی دفعات کے تحت تقرر کردہ کمشنر کے لئے

مجوزہ کردہ شرائط و قیود کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمشنر کے لئے قابل اطلاق ہوگی۔

۹۔ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمشنر کے اختیارات و فرائض منصبی۔ (۱) کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمشنر کمپنی کی پالیسی کی پیروی میں کارپوریٹ سماجی ذمہ داری پالیسی اور سرگرمیوں کی تعمیل اور عملدرآمد کی نگرانی کرے گا۔

(۲) کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کمیٹی یا سیکرٹری کمپنی ہر تین ماہ کی بنیاد پر کارپوریٹ سماجی کمشنر کو کارپوریٹ سماجی ذمہ داری پالیسی کی پیروی میں تعمیل اور عملدرآمد کی سرگرمیوں پر رپورٹ دیں گے۔

(۳) مطلوبہ رقم خرچ کرنے میں ناکامی کی صورت میں، سی ایس آر کمشنر سی ایس آر پالیسی یا جدول میں مختص کردہ مختلف سرگرمیوں کے لئے ایکٹ کی دفعہ ۳ کے تحت یا سی ایس آر پالیسی کے تحت مختص کردہ رقم سے کم کا جرمانہ عائد کرے گا اور کمپنیاں ایکٹ کی دفعہ ۴۲ کے تحت شامل کی گئی اور لائسنس یافتہ کسی ایسوسی ایشن یا کمپنی، یا جدول میں تخصیص کردہ سرگرمیوں کے لئے اس رقم کو استعمال کرنے کے لئے علاقے میں کسی دیگر قانون کے تحت رجسٹرڈ غیر منافع بخش تنظیم کو اس سال کرے گا۔

۱۰۔ ٹیکس چھوٹ۔ باوجود اس کے کہ ایکٹ ہذا یا انکم ٹیکس آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (آرڈیننس نمبر ۴۹ مجریہ ۲۰۰۱ء) میں کوئی چیز مذکور ہو، کارپوریٹ سماجی ذمہ داری پر خرچ کی گئی کوئی رقم مذکورہ آرڈیننس کی دفعات کے تحت قابل کٹوتی اخراجات ہوں گے۔

۱۱۔ جدول میں ترمیم۔ وفاقی حکومت سرکاری جریدے میں ایک نوٹیفکیشن کی اشاعت کے ذریعے وقتاً فوقتاً جدول میں ترمیم کرے گی۔

۱۲۔ قواعد سازی کے اختیارات۔ (۱) کمیشن، وفاقی حکومت کی پیشگی منظوری کے ساتھ ایکٹ کے اغراض کے لئے قواعد بنائے گا۔

(۲) ایکٹ ہذا یا فی الوقت مروجہ کوئی دیگر قانون میں جو کچھ مذکور ہو کے باوجود، ایکٹ کے تحت قواعد ایکٹ کے نفاذ کے بعد ساٹھ دنوں کے اندر بنائے جائیں گے۔

۱۳۔ ازالہ مشکلات۔ (۱) ایکٹ کی کسی دفعہ کو مؤثر بہ عمل بنانے میں پیدا ہونے والی کسی مشکل کی صورت میں، کمیشن کا تہمکات و مبادلہ پالیسی بورڈ، سرکاری جریدے میں شائع کئے گئے فرمان کے ذریعے، ایسی دفعات، جو ایکٹ ہذا کی دفعات سے متصادم نہ ہو، جو ایسی مشکل کو دور کرنے کی غرض کے لئے مناسب یا ضروری، کو بنائے گا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کی رو سے ایکٹ ہذا کے آغاز بفاذ کے دو سال بعد کسی کو اختیارات کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔

### شیڈول

[دفعہ ۱۵ ملاحظہ کریں]

### کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کی پالیسیوں میں شامل کی جانے والی سرگرمیاں

کمپنیوں کے انتظامات سے متعلقہ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کی پالیسیوں میں درج ذیل سرگرمیوں کو شامل کیا جائے، یعنی:-

(الف) قرب و جوار یا گرد و پیش کے علاقوں میں مقیم آبادی کی بہتری کے لیے منصوبوں کے آغاز کے ذریعے کمیونٹی ویلفیئر سرگرمیاں؛

(ب) معاشرتی اور معاشی فلاح و بہبود کی سرگرمیاں، مثلاً معذوری کے باعث زندگی معمول کے مطابق گزارنے سے قاصر افراد؛ کافی عرصے سے صحت سے متعلق مسائل کا سامنا کرنے والے افراد، عمر رسیدہ افراد کی مالی معاونت کی

غرض سے ماہوار رقم مقرر کرنا، اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تعلیمی وظائف یا اخراجات پر مبنی رقوم، اور انٹرن شپس کا یقینی طور پر اہتمام کرنا؛

(ج) غربت، بھوک اور غذائیت کی کمی کا خاتمہ؛

(د) ہسپتالوں، کلینک اور ڈسپنسریوں اور نرسنگ، ماں اور بچے کی نگہداشت کے مراکز اور مراکز دایہ گیری کے قیام کے ذریعے صحت کی نگہداشت کو فروغ دینا؛

(ه) قریب کے موضعات میں پانی کے نکاس کے نظام کا قیام کر کے صحت و صفائی، اور عوام کی عمومی صحت کو بہتر بنانا؛

(و) خاص کر لڑکیوں کے لیے اسکول، کالج، لائبریریاں اور لیبارٹریاں قائم کر کے تعلیم کو فروغ دینا؛

(ز) انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کی تعلیم و تربیت اور فری لانسنگ کے شعبے کو فروغ دینے کے مراکز کے قیام سے متعلق سرگرمیاں؛

(ح) ٹیکیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم کے فروغ کی سرگرمیاں اور ان شعبہ جات میں مہارت کے حصول پر خصوصی توجہ

دینے کی سرگرمیاں جن پر دسترس رکھنے والے ماہرین کی دنیا میں مانگ ہو اور ملازمت کے بہتر مواقع حاصل ہوں؛

(ط) خواتین کو باختیار بنانے اور کاروبار کے فروغ اور اقتصادی میدان میں ہر طبقے کو شامل کر کے برابری کی ترویج کی سرگرمیاں؛

(ی) غریب اور ضرورت مند افراد کے لیے ہاسٹلوں، عمر رسیدہ افراد یا یتیموں کی جائے سکونت کے قیام سے متعلق سرگرمیاں؛

(ک) آب و ہوا میں تبدیلیوں کے تناظر میں ماحولیاتی استحکام، کے تناظر میں ماحولیاتی استحکام، ایک ہی ماحول میں رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے والے گروپوں کے درمیان باہمی توازن، قدرتی اور نہایتی حیات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی سرگرمیاں؛ ماحول دوست سرگرمیاں۔

(ل) ہوا، مٹی اور پانی کے معیار کو قائم رکھتے ہوئے زرعی شجرکاری اور قدرتی وسائل کے تحفظ کا فروغ؛

(م) گرد و نواح میں واقع دیہی علاقوں کو ترقی دینے کے منصوبوں بشمول سڑکوں اور پختہ راستوں کی ترقی کے منصوبوں سے متعلق سرگرمیاں؛

(ن) دیہی علاقوں، پسماندہ اور کچی آبادیوں وغیرہ کے قریبی علاقوں میں بہتر زندگی کے حالات کے لئے منصوبے جس میں ہاؤسنگ، پینے کا صاف پانی، پارکوں کا قیام اور کھیلوں کے میدان شامل ہیں؛

(س) تاریخی اہمیت کی حامل عمارتوں اور مقامات کے تحفظ کے ذریعے قومی ثقافت اور ورثہ کا تحفظ؛

(ع) کھیلوں کے مراکز اور اسٹیدیم وغیرہ قائم اور برقرار رکھتے ہوئے نوجوانوں میں کھیلوں کا فروغ اور علاقہ کے باصلاحیت اور ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لئے وظیفہ مقرر کرنا؛

(ف) سائنس، طب، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شعبہ میں تحقیقی مراکز اور لیبارٹریوں کا قیام اور انتظام؛ یا

(ص) ضروری انتظامات کرتے ہوئے آفات سے نمٹنے کے لئے تیاری کی بابت کام کرنا تاکہ اعداء، بحالی اور تعمیر نو کی سرگرمیوں وغیرہ کو یقینی بنایا جائے؛

(ق) کمپنی کے آپریشن کے شعبہ میں نوجوانوں کی استعداد کار میں اضافہ کے لئے انہیں انٹرن شپ فراہم کرنا۔

### بیان اغراض و وجوہ

کارپوریٹ سیکٹر ذمہ داری جس کے تحت تنظیم کے آپریشن کے شعبہ میں اپنے منافع سے کمیونٹی کے لئے ایک فرض کے طور پر ذمہ دار معاشرہ اور ماحولیاتی منصوبوں اور پیراگرافوں کو فروغ دینا ہے؛ کارپوریٹ سیکٹر غریب اور ضرورت مند افراد کی سماجی و معاشی بہتری کے ساتھ ساتھ سب کے لئے بہتر ماحول کو یقینی بنانے کے ضمن میں خرچ کرنے کے لئے کردار ادا کرے گا۔ پاکستان ایس ڈی جی کے اہداف کے حصول میں بہت پیچھے ہے لہذا ضروری ہے کہ کارپوریٹ اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ان اہداف کے حصول میں ذمہ داری اٹھائیں۔

اس وقت رہنما اصول اور غیر رسمی انتظامات میں جس کے ذریعے کارپوریٹ سیکٹر کارپوریٹ سماجی ذمہ داری (سی ایس آر) میں کردار ادا کر رہا ہے۔ تاہم، سی ایس آر سے متعلق پاکستان میں نافذ العمل کمپنیاں ایکٹ، ۲۰۱۷ء (ایکٹ نمبر ۱۹ بابت ۲۰۱۷ء) یا کمپنی قانون میں پابند بنانے کی بابت کوئی تصریحات نہیں ہیں۔ محض رہنما اصول کسی مقصد کو پورا نہیں کر سکتے تاؤ فٹیکہ تعزیری نتائج کے ساتھ قانون کی پابند بنانے کی کچھ تصریحات موجود نہ ہوں۔

یہ بل سی ایس آر کے لئے رہنما اصول اور بنیادی ڈھانچہ وضع کرتا ہے۔ کمپنیاں کی دفعہ ۴۲ کے علاوہ اس میں سی ایس آر اخراجات کے لئے بینکنگ سیکٹر اور ریاستی ملکیتی کاروباری ادارے شامل ہیں جس کے ذریعے قانون کا دائرہ کار وسیع تر ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ مزید وضاحت کی گئی ہے کہ نمایاں منافع والی صرف بڑی کمپنیوں کو سی ایس آر پر منافع کا ایک فیصد خرچ کرنے کا پابند بنایا جائے گا۔

دستخط /

ڈاکٹر نفیسہ شاہ

رکن، قومی اسمبلی